



## SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

### **PRESS RELEASE**

For immediate release

October 12, 2023

#### **SECP registers 2,477 new companies in September**

ISLAMABAD, October 12: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) registered 2,477 new companies in September 2023, bringing the total number of companies in Pakistan to 202,892. The total capitalization (paid up capital) of newly incorporated companies stood at Rs. 1.59 billion.

Private limited companies accounted for 58 percent of new incorporations, followed by single-member companies at 39 percent and 3 percent were registered as public unlisted companies, not-for-profit associations, trade organizations and limited liability partnerships (LLP). One foreign company has also established a place of business in Pakistan, while 92 applicants incorporated companies from overseas using eService. Almost 99.7 percent of companies were registered online. In addition, as a result of integration of SECP with FBR and various provincial departments, 2,389 companies were registered with FBR for registration of NTN, 62 companies with EOBI, 34 companies with PESSI/SESSI and 40 companies with excise and taxation department.

Information technology sector took the lead with incorporation with 347 companies, trading with 308, services with 282, real estate development & construction with 278, tourism with 123, education with 106, food & beverages with 100, ecommerce with 75, mining & quarrying with 70, textile with 60, corporate agricultural farming with 59, marketing & advertisement, and pharmaceutical with 49 each, engineering, and transport with 48 each, power generation with 47, healthcare, and cosmetics & toiletries with 37 each, chemical with 35, auto & allied 27, lodging with 24, broadcasting & telecasting, and communications with 22 each, cables & electrical goods with 21, paper & board with 17, and 186 companies were registered in other sectors.

Foreign investment has been reported in 82 new companies, having investors from Afghanistan, Australia, Bahrain, China, Denmark, France, Indonesia, Japan, Kenya, Korea South, Kuwait, Malaysia, Mongolia, Nigeria, Norway, Portugal, Romania, Russia, Spain, UAE, UK, USA and Vietnam. Major chunk of investment was received from China with 47 companies, UK with 06, USA with 05, Korea South with 03, Japan, Nigeria and Portugal with 02 each and in 15 companies from other countries.

ایس ای سی پی نے ستمبر میں 2,477 نئی کمپنیاں رجسٹر کیں

اسلام آباد (اکتوبر 12) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اس سال ستمبر میں 2,477 نئی کمپنیاں رجسٹر کیں، جس سے کل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد دو لاکھ، دو ہزار آٹھ سو بانوے (202,892) ہو گئی ہے۔ نئی شامل کمپنیوں کا کل ادا شدہ سرمایہ کا حجم ایک ارب 59 کروڑ روپے ہے۔

نئی رجسٹر ہونے والی کمپنیوں میں تقریباً 58 فیصد کمپنیاں، بطور پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پر رجسٹرڈ ہوئیں جبکہ 39 فیصد سنگل ممبر کمپنیاں شامل تھیں اور بقیہ تین فیصد پبلک ان لسٹڈ، غیر منافع بخش تنظیمیں، تجارتی تنظیموں اور محدود ذمہ داری کی شراکت داری کے طور پر رجسٹرڈ ہوئیں۔ اس ماہ ایک غیر ملکی کمپنی نے بھی پاکستان میں کاروبار کرنے کی رجسٹریشن حاصل کی ہے، جبکہ 92 درخواست دہندگان نے ایس ای سی پی کی ای سروسز کے ذریعے بیرون ملک سے کمپنیوں کو رجسٹر کیا۔ اس ماہ تقریباً 99.7 فیصد کمپنیاں آن لائن رجسٹرڈ ہوئیں۔

اس ماہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے نے 347 کمپنیوں، نے رجسٹریشن حاصل کی، اس کے بعد ٹریڈنگ کے شعبے میں 308 کمپنیاں، خدمات میں 282 کمپنیاں، ریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اور کنسٹرکشن میں 278 کمپنیوں اور سیاحت کے شعبے میں 123 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔

تعلیم کے شعبے میں 106، فوڈ اینڈ بیوریجز میں 100، ای کامرس میں 75، کان کنی اور کھدائی کے شعبے میں 70 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ اس کے بعد ٹیکسٹائل میں 60، کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمنگ میں 59، مارکیٹنگ اور اشتہارات اور فارماسیوٹیکل دونوں شعبوں میں 49، انجینئرنگ اور ٹرانسپورٹ میں 48، پاور جزییشن میں 47، ہیلتھ کیئر اور کاسمیٹکس اور ٹوائلٹری، تینوں میں 37، کیمیکل میں 35، آٹو اینڈ الائیڈ میں 27، ہوٹلنگ میں 24، براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ اور کمیونیکیشن میں 22، کیبلز اور الیکٹریکل گڈز میں 21، پیپر اینڈ بورڈ میں 17 اور دیگر شعبوں میں 186 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔

اس کے علاوہ 82 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری دیکھی گئی۔ اس کمپنیوں میں افغانستان، آسٹریلیا، بحرین، چین، ڈنمارک، فرانس، انڈونیشیا، جاپان، کینیا، جنوبی کوریا، کویت، ملائیشیا، منگولیا، نائیجیریا، ناروے، پرگال، رومانیہ، روس، سپین، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ اور ویتنام سے غیر ملکی ڈائریکٹرز کمپنیوں میں شامل ہوئے۔ سرمایہ کاری کا بڑا حصہ چین سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کاروں کی جانب سے ہے جنہوں نے 47 کمپنیوں میں ڈائریکٹر شپ حاصل کی، اس کے بعد برطانیہ سے 06، امریکہ کے ساتھ 05، جنوبی کوریا سے 03، جاپان، نائیجیریا اور پرگال سے 02 اور 15 کمپنیوں میں دیگر ممالک سے سرمایہ کاری ہوئی۔

ایف بی آر اور مختلف صوبائی محکموں کے ساتھ ایس ای سی پی کے انضمام کے نتیجے میں، این ٹی این کی رجسٹریشن کے لیے ایف بی آر میں 2,389 کمپنیاں، 62 کمپنیاں EOBI، 34 کمپنیاں PESSI/SESSI کے ساتھ اور 40 کمپنیاں محکمہ ایکسٹرنل ٹیکسیشن کے ساتھ رجسٹر ہوئیں۔